


# SKIVTOFS



Design and Quality  
IKEA of Sweden

**English**

For indoor use only.

**English****IMPORTANT**

Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a authorised electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice.

**English**

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard. If you are uncertain, please contact IKEA.

**Deutsch**

Nur für den Gebrauch im Haus geeignet.

**Deutsch****WICHTIG!**

Vor der Installation den Strom abschalten. In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden ansprechen.

**Deutsch**

Falls das äußere biegsame Kabel oder das Anschlusskabel dieser Beleuchtung beschädigt wird, darf es nur vom Hersteller, dessen Servicevertreter oder einer anderen qualifizierten Kraft ausgetauscht werden, um eventuelle Risiken auszuschließen. Bei Fragen stehen die Mitarbeiter von IKEA zur Verfügung.

**Français**

Usage à l'intérieur uniquement.

**Français****ATTENTION!**

Toujours couper l'alimentation au panneau principal avant de procéder à l'installation. Dans certains pays, l'installation doit être effectuée par un électricien qualifié. Pour en savoir plus, contacter les autorités locales compétentes en la matière.

**Français**

Si le câble électrique de ce luminaire est endommagé, il peut être remplacé. Pour éviter tout danger, le remplacement doit impérativement être effectué par le fabricant, un représentant de celui-ci ou un réparateur agréé. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre magasin IKEA.

**Nederlands**

Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

**Nederlands****BELANGRIJK!**

Schakel de stroom altijd uit voordat met de installatie wordt begonnen. In sommige landen mogen elektrische installaties alleen worden uitgevoerd door een bevoegd elektricien. Neem daarom contact op met de plaatselijke overheid voor advies.

**Nederlands**

Als het snoer of de buitenste flexibele kabel van deze verlichting beschadigd is, mag deze uitsluitend door de fabrikant, diens service-agent of een andere vakman vervangen worden. Dit om eventuele risico's te vermijden. Neem bij twijfel contact op met IKEA.



### Dansk

Kun til indendørs brug.

### Dansk

VIGTIGT!

Sluk altid for strømmen, før installationen påbegyndes. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Få oplysninger hos de relevante myndigheder.

### Dansk

Hvis det ydre, bøjelige kabel eller ledningen til lampen beskadiges, må den kun udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en anden kvalificeret person for at undgå farlige situationer. Kontakt IKEA, hvis du er i tvivl.

### Íslenska

Notist aðeins innandyra.

### Íslenska

MIKILVÆGT

Sláið rafmagníð úr áður en uppsetning hefst. Í sumum löndum þarf uppsetning að vera framkvæmd af löggiltum rafvirkja. Leitið ráða hjá rafvirkja varðandi uppsetninguna.

### Íslenska

Ef ytri sveigjanlega snúran í þessu ljósi er skemmd þarf að leita til framleiðandans, þjónustuaðila eða annars fagaðila til að skipta henni út fyrir nýja svo að hægt sé að fyrirbyggja að hætta skapist. Vinsamlegast hafðu samband við IKEA ef þú ert í vafa.

### Norsk

Kun for innendørs bruk.

### Norsk

VIKTIG!

Elektriske installasjoner skal utføres av elektriker. Steng av strømtilførselen til strømkretsen med riktig sikring før installasjonsarbeidet påbegynnes.

### Norsk

Om kabelen eller ledningen til denne belysningen blir skadet, får den kun byttes ut av leverandøren, dennes serviceagent eller en annen kvalifisert fagmann for å unngå eventuelle fare. Om du er usikker, vær vennlig å kontakte IKEA.

### Suomi

Vain sisäkäyttöön.

### Suomi

TÄRKEÄ!

Katkaise aina virta pääkatkaisimesta ennen asennuksen aloittamista. Joissakin maissa asennuksen saa tehdä ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja. Ota selvää paikallisista määräyksistä.

### Suomi

Jos valaisimen uloin, taipuisa kaapeli tai johto vioittuu, turvallisuussyistä sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu huoltoliike. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä IKEA-tavarataloon.

### Svenska

Endast för inomhusbruk.

### Svenska

VIKTIGT!

Stäng alltid av strömmen innan installation påbörjas. I vissa länder får elektrisk installation endast utföras av auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för råd.

### Svenska

Om den yttre böjliga kabeln eller sladden till denna belysning skadas, får den endast bytas ut av tillverkaren eller dennes serviceagent eller annan behörig person, för att undvika eventuella risker. Om du är osäker, var vänlig kontakta IKEA.

### Česky

Pouze pro vnitřní použití.

### Česky

DŮLEŽITÉ

Před instalací vždy odpojte ze sítě. V některých zemích může instalaci provést pouze kvalifikovaný elektrikář. Kontaktujte o radu nejbližšího elektrikáře.

### Česky

Je-li vnější přívodní kabel svítidla poškozen, musí být vyměněn pouze výrobcem, autorizovaným servisem nebo jiným kvalifikovaným odborníkem, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Nevíte-li, na koho se obrátit, kontaktujte obchodní dům IKEA.



### **Español**

Para usar únicamente en el interior.

### **Español**

#### **IMPORTANTE**

Desconecta siempre el interruptor general de la electricidad antes de iniciar cualquier trabajo de instalación. En algunos países, la instalación eléctrica sólo puede realizarla un electricista profesional. Ponte en contacto con las autoridades locales para saber cuál es tu caso.

### **Español**

Si se dañase el cable exterior flexible de esta lámpara, para evitar riesgos deberá ser sustituido exclusivamente por el fabricante, su representante o un electricista cualificado. Si no estás seguro, ponte en contacto con IKEA.

### **Italiano**

Solo per interni.

### **Italiano**

#### **IMPORTANTE!**

Togli sempre tensione al circuito prima di iniziare l'installazione. In alcune nazioni l'installazione elettrica può essere effettuata solo da un elettricista autorizzato. Per maggiori informazioni, contatta l'autorità locale per l'energia elettrica.

### **Italiano**

Se il cavo flessibile esterno o filo elettrico di questa illuminazione è danneggiato, può essere sostituito esclusivamente dal produttore, da un centro di assistenza autorizzato o da un elettricista qualificato, per evitare rischi. Se non sei sicuro, contatta il tuo negozio IKEA.

### **Magyar**

Beltéri használatra.

### **Magyar**

#### **FONTOS**

Minden esetben kapcsold le az áramot mielőtt elkezdted a munkát. Néhány országban elektromos installációt kizárólag szakember végezhet. Ezzel kapcsolatban érdeklődj elektromos szolgáltatódnál.

### **Magyar**

Ha a külső rugalmas vezeték vagy kábel megsérül, biztonsági okokból csak szakember vagy a szerviz munkatársai végezhetik el a cserét. Ha bizonytalan vagy, hogy kihez fordulj, lépj kapcsolatba az IKEA áruházak Vevőszolgálatával.

### **Polski**

Tylko do użytku w pomieszczeniu.

### **Polski**

#### **WAŻNE**

Przed rozpoczęciem instalacji odłącz zasilanie. W niektórych państwach instalacje elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków. Skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, aby uzyskać poradę.

### **Polski**

Jeżeli zewnętrzny przewód lampy ulegnie uszkodzeniu, w celu uniknięcia zagrożenia jego wymiany może dokonać jedynie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub inna wykwalifikowana osoba. W razie wątpliwości skontaktuj się z IKEA.

### **Eesti**

Ainult sisetingimustes kasutamiseks.

### **Eesti**

#### **OLULINE**

Lülitage alati enne paigaldustööde alustamist elekter välja. Mõnes riigis võib elektritööd teostada ainult litsentseeritud elektrik. Võtke ühendust kohaliku elektriteenust pakkuva asutusega.

### **Eesti**

Kui selle valgusti väline kaabel või juhe on kahjustatud, vahetab selle erilise juhtme vastu ainult tootja või tema esindaja, selleks, et vältida ohtlikke olukordi. Kui te ei ole kindel kelle poole pöörduda, võtke esmalt ühendust IKEA poega.

### **Latviešu**

Lietošanai tikai iekštelpās.

### **Latviešu**

#### **SVARĪGI**

Pirms montāžas darbu uzsākšanas vienmēr atvienojiet galveno strāvas padevi. Dažās valstīs elektroinstalācijas darbus drīkst veikt tikai sertificēts elektrikis. Neskaidribu gadījumā sazinieties ar savu vietējo energoapgādes uzņēmumu.

### **Latviešu**

Lai izvairītos no riska, šīs lampas vadu/kabeļu bojājumus drīkst novērst tikai ražotājs, servisa pārstāvis vai cita kvalificēta persona. Šaubu gadījumā sazinieties ar IKEA veikalu.



### Lietuvių

Skirta naudoti tik viduje.

### Lietuvių

#### SVARBU!

Prieš pradėdami elektros instaliacijos darbus, visada išjunkite elektros energiją. Kai kuriose šalyse elektros instaliacijos darbus gali atlikti tik leidimą tam turintis elektrikas. Kreipkitės į atitinkamas institucijas ir pasitikslinkite.

### Lietuvių

Jei lankstus kabelis ar laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninio aptarnavimo atstovas ar kvalifikuotas specialistas. Jei kils klausimų, kreipkitės į IKEA.

### Portugues

Apenas para usar no interior.

### Portugues

#### IMPORTANTE

Desligue sempre a corrente elétrica do circuito antes de começar a instalação. Em alguns países, a instalação elétrica só pode ser realizada por um técnico autorizado. Entre em contacto com as autoridades locais para averiguar qual a sua situação.

### Portugues

Se o cabo exterior flexível deste candeeiro se danificar, deverá ser substituído exclusivamente pelo fabricante ou seu representante ou por uma pessoa qualificada, para evitar acidentes. Se tiver dúvidas, contacte a IKEA.

### Româna

Se folosește doar la interior.

### Româna

#### ATENȚIE!

Opriți întotdeauna alimentarea cu curent electric înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, operațiunile de instalare pot fi efectuate numai de către un instalator autorizat. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală care gestionează energia electrică.

### Româna

Dacă cablul electric al acestui corp de iluminat este deteriorat, va fi înlocuit numai de către producător sau de agentul de servicii al acestuia, sau de către o altă persoană specializată, pentru a evita accidentările. Dacă ai nelămuriri, contactează IKEA.

### Slovensky

Iba na vnútorné použitie.

### Slovensky

#### Dôležité

Pred inštaláciou vždy odpojte zo siete. Zistite si, či nepatríte medzi tie krajiny, kde inštaláciu môže uskutočniť výlučne elektrikár. O radu požiadajte vašu lokálnu autoritu.

### Slovensky

V prípade, ak sa vonkajší zdrojový kábel svietidla poškodí, je nutné, aby ho vymenil výrobca alebo jeho servisný zástupca, prípadne kvalifikovaný elektrikár tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia. Ak máte pochybnosti, obráťte sa prosím na IKEA.

### Български

Само за употреба на закрито.

### Български

#### ВАЖНО!

Винаги изключвайте електрозахранването във веригата, преди да извършвате работа по инсталацията. В някои страни работа по електрическите инсталации може да се извършва единствено от оторизиран електротехник. За препоръка се обърнете към местната електрическа компания.

### Български

Ако външният подвижен кабел на лампата бъде повреден, той трябва да бъде подменен единствено от производителя, негов представител или друго квалифицирано лице, за да се избегнат рискове. Ако имате въпроси, свържете се с IKEA.

### Hrvatski

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### Hrvatski

#### VAŽNO

Uvijek isključite struju prije instalacije. U nekim zemljama postavljanje električnih instalacija može obavljati samo ovlašteni električar. Za savjet kontaktirajte svog lokalnog ovlaštenog električara.

### Hrvatski

Ako je strujni kabel oštećen, mora ga zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser ili slična kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost. Ako niste sigurni, kontaktirajte IKEA robnu kuću.



### **Ελληνικά**

Για εσωτερική χρήση, μόνο.

### **Ελληνικά**

#### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**

Πριν από την έναρξη της εργασίας εγκατάστασης, να διακόπτετε πάντα την παροχή ρεύματος από τον γενικό διακόπτη. Σε μερικές χώρες, οι ηλεκτρολογικές εργασίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρία ηλεκτρισμού της περιοχής σας.

### **Ελληνικά**

Εάν το εξωτερικό ευέλικτο καλώδιο αυτού του φωτιστικού φθαρεί, για την αποφυγή ατυχήματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο σέρβις του ή από ένα άλλο ειδικευμένο άτομο. Εάν δεν είστε βέβαιοι, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με την ΙΚΕΑ.

### **Українська**

Лише для використання у приміщенні.

### **Українська**

#### **ВАЖЛИВО!**

Завжди вимикайте виріб із електромережі перед початком електромонтажних робіт. У деяких країнах монтаж електрообладнання дозволяється здійснювати лише ліцензованим підрядникам. За порадою зверніться до відповідних місцевих органів.

### **Українська**

Якщо зовнішній гнучкий кабель або шнур цього виробу пошкоджено, лише виробник, працівник його сервісної служби або фахівець подібної кваліфікації може його замінити, щоб запобігти нещасному випадку. Якщо у вас є сумніви, зверніться до ІКЕА.

### **Srpski**

Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

### **Srpski**

#### **VAŽNO!**

Uvek isključi struju pre nego što počneš s instaliranjem. U pojedinim zemljama radove na elektroinstalacijama mogu da izvode isključivo ovlašćeni kvalifikovani električari. Za savet se obrati lokalnoj elektrodistribuciji.

### **Srpski**

U slučaju da je spoljašnji fleksibilni kabl ili električni kabl ove svetiljke oštećen, njegovu zamenu treba da izvrši proizvođač, ovlašćeni serviser ili kvalifikovana osoba da bi se izbegao mogući rizik. Ako si u nedoumici, raspitaj se u robnoj kući IKEA.

### **Slovenščina**

Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

### **Slovenščina**

#### **POMEMBNO**

Preden pričneš z delom, vedno izklopi električno napajanje. V nekaterih državah sme dela na električni napeljavi izvajati le ustrezno usposobljen in pooblaščen električar. Za nasvet se obrni na lokalno elektro podjetje.

### **Slovenščina**

Če se zunanji pregibni kabl ali žica svetila poškodujeta, ju lahko zamenja le proizvajalec, pooblaščen serviser ali podobno usposobljena oseba. S tem se izogneš nepotrebnim tveganjem. Za nasvet se obrni na najbližjo trgovino IKEA.



### **Türkçe**

Sadece iç mekan kullanımı içindir.

### **Türkçe**

#### **ÖNEMLİ!**

Kurulumla başlamadan önce her zaman elektrik devresini kapatınız. Bazı ülkelerde elektrik kurulum işlemi sadece yetkili elektrik teknikerleri tarafından yapılmaktadır. Size en yakın yerel elektrik idaresi ile temas kurarak bu konuda bilgi alabilirsiniz.

### **Türkçe**

Bu aydınlatmanın harici esnek kablosu veya kordonu zarar görürse, tehlikeden kaçınmak için üretici firma veya üretici firma yetkili servisi veya benzeri bir kişi tarafından değiştirilecektir. Emin değilseniz, lütfen IKEA ile temasa geçiniz.

### **中文**

仅供室内使用。

### **中文**

#### **重要事項**

安裝工作开始前，请务必切断电路电源。在一些国家，电气安装必须由有资质的电力承包商完成。请联系您当地的电力部门，征询建议。

### **中文**

如果这种照明装置的外部软电缆或电线受到损坏，必须由制造商、其代理商或具有相近资质的人员进行更换，防止发生伤害事故。如有疑问，请联系宜家。

### **繁中**

僅適用於室內。

### **繁中**

#### **重要訊息**

安裝前請務必關掉電源。有些國家的電力安裝工作需由有執照的專業電工執行，如有任何疑問，請聯絡專業人員。

### **繁中**

如果燈具的外部電線受損，應由製造商，服務人員或相關的專業人員替換，以避免發生危險。如果不確定的話，請聯絡IKEA。

### **한국어**

실내 전용

### **한국어**

#### **중요!**

설치작업을 시작하기 전 반드시 회로의 전원을 차단하세요. 일부 국가에서는 공인전기시공업체만 전기 공사를 진행할 수 있습니다. 관련 정보는 지역 전력 관할 기관에 문의하세요.

### **한국어**

본 조명기구의 가요성 외부 케이블이나 코드가 손상되었을 경우 위험한 사고를 방지하기 위해 반드시 제조사, 지정 서비스 업체, 또는 전문가에 의해 교체되어야 합니다. 필요한 경우 이케아에 문의해 주세요.

### **日本語**

室内専用

### **日本語**

#### **重要**

設置作業を開始する前に必ずブレーカーを切ってください。電気工事の作業を行うには、資格を必要とする国もあります。お近くの電気工事店にご相談ください。

### **日本語**

この照明器具の外部ケーブルやコードが破損した場合は、修理に伴う事故を避けるため、必ず製造元のメーカーや代理店、電気工事店などに部品交換を依頼してください。ご不明な点がございましたら、イケアにお問い合わせください。

### **Bahasa Indonesia**

Untuk kegunaan dalam bangunan saja.

### **Bahasa Indonesia**

#### **PENTING!**

Selalu matikan listrik ke sirkuit sebelum memulai pekerjaan pemasangan. Di beberapa negara pekerjaan pemasangan listrik hanya boleh dilakukan oleh tukang listrik tersertifikasi. Hubungi tukang listrik berwenang di tempat anda untuk saran.

### **Bahasa Indonesia**

Jika bagian luar kabel fleksibel atau kabel sambungan untuk penerangan ini rusak, maka harus digantikan oleh pabrik pembuat atau agen pelayanannya atau orang yang berkualifikasi agar terhindari dari bahaya. Bila anda ragu, silahkan hubungi IKEA.



### Bahasa Malaysia

Untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.

### Bahasa Malaysia

#### PENTING

Sentiasa padamkan bekalan kuasa ke litar sebelum memulakan kerja-kerja pemasangan. Di beberapa negara kerja-kerja pemasangan elektrik hanya boleh dilakukan oleh kontraktor elektrik yang bertauliah. Hubungi pihak berkuasa tempatan untuk mendapatkan nasihat tentang bekalan elektrik.

### Bahasa Malaysia

Jika kabel atau kord fleksibel luaran bagi lampu ini telah rosak, ia patut diganti secara eksklusif oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya atau individu yang berkelayakan agar bahaya dapat dielakkan. Jika anda tidak pasti, sila hubungi IKEA.

### ไทย

สำหรับใช้ในอาคารเท่านั้น

### ไทย

สำคัญ!

ในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้ง จำเป็นต้องตัดกระแสไฟฟ้าออกจากวงจรก่อน เพื่อความปลอดภัย บางประเทศกำหนดให้การติดตั้งงานไฟฟ้าต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าผู้ได้รับใบอนุญาตเท่านั้น คุณสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้จากหน่วยงานไฟฟ้าท้องถิ่น

### ไทย

หากสายเคเบิลหรือสายไฟอ่อนของโคมไฟชำรุดเสียหาย ควรส่งไปเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต ตัวแทนผู้ให้บริการของผู้ผลิต หรือช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญ เพื่อความปลอดภัยไม่ควรเปลี่ยนสายไฟเอง หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้จากร้าน IKEA ใกล้บ้าน

### عربي

للإستخدام الداخلي فقط.


### عربي

هام


دائماً أفضل الطاقة عن الدائرة الكهربائية قبل البدء في أعمال التركيب. في بعض الدول قد يتم تنفيذ أعمال التركيبات الكهربائية بواسطة كهربائي معتمد فقط. اتصل بالجهة المختصة في بلدك لأخذ التوجيهات.

### عربي


إذا تضرر السلك أو السلك الخارجي المرن لهذه الإنارة، يجب إستبداله بشكل حصري من قبل المصنّع أو وكيل خدماته أو شخصاً مؤهلاً مماثلاً لتفادي الخطر. إذا لم تكن واثقاً، الرجاء الإتصال بإيكنيا.








1x



2



**English**

CAUTION! Do not overtighten.

**Deutsch**

ACHTUNG! Nicht überdrehen.

**Français**

ATTENTION ! Ne pas trop serrer.

**Nederlands**

WAARSCHUWING! Niet te stevig aandraaien!

**Dansk**

FORSIGTIG! Må ikke overspændes.

**Íslenska**

VARÚÐ! Ekki herða of fast.

**Norsk**

ADVARSEL! Ikke stram for hardt.

**Suomi**

VAROITUS! Älä kiristä ruuvia liikaa.

**Svenska**

VARNING! Överdra inte.

**Česky**

UPOZORNĚNÍ! Neutahujte příliš těsně.

**Español**

¡PRECAUCIÓN! No apretar en exceso.

**Italiano**

AVVERTENZA! Non stringere eccessivamente.

**Magyar**

FIGYELEM! Ne húzd túl.

**Polski**

OSTRZEŻENIE! Nie przykręcać zbyt mocno.

**Eesti**

HOIATUS! Ärge pingutage liiga kõvasti.

**Latviešu**

UZMANĪBU! Nepievilkst pārāk cieši.

**Lietuvių**

DĖMESIO! Per stipriai neveržkite.

**Portugues**

ATENÇÃO! Não aperte demasiado.

**Româna**

ATENȚIE! Nu înșuruba prea tare!

**Slovensky**

POZOR! Nedoťahujte príliš na doraz.

**Български**

ВНИМАНИЕ! Не затягайте прекомерно.

**Hrvatski**

OPREZI! Ne zatežite previše.

**Ελληνικά**

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη το σφίγγετε υπερβολικά.

**Українська**

УВАГА! Не затягуйте занадто сильно.

**Srpski**

OPREZI! Ne zateži previše.

**Slovenščina**

POZOR! Ne privij premočno.

**Türkçe**

DİKKAT! Fazla sıkmayınız.

**中文**

注意！请勿锁得太紧。

**繁中**

注意！請勿鎖得太緊。

**한국어**

주의! 너무 세게 조이지 마세요.

**日本語**

注意！締めすぎないでください。

**Bahasa Indonesia**

PERINGATAN! Jangan terlalu kencang.

**Bahasa Malaysia**


AMARAN! Jangan terlebih ketat.



عربي  
تنبيه! يجب عدم ربطه بإفراط.



**ไทย**



ข้อควรระวัง! ไม่ควรขันน็อตแน่นจนเกินไป




3


















7




8





11



**English**

CAUTION! Do not overtighten.

**Deutsch**

ACHTUNG! Nicht überdrehen.

**Français**

ATTENTION ! Ne pas trop serrer.

**Nederlands**

WAARSCHUWING! Niet te stevig aandraaien!

**Dansk**

FORSIGTIG! Må ikke overspændes.

**Íslenska**

VARÚÐ! Ekki herða of fast.

**Norsk**

ADVARSEL! Ikke stram for hardt.

**Suomi**

VAROITUS! Älä kiristä ruuvia liikaa.

**Svenska**

VARNING! Överdra inte.

**Česky**

UPOZORNĚNÍ! Neutahujte příliš těsně.

**Español**

¡PRECAUCIÓN! No apretar en exceso.

**Italiano**

AVVERTENZA! Non stringere eccessivamente.

**Magyar**

FIGYELEM! Ne húzd túl.

**Polski**

OSTRZEŻENIE! Nie przykręcać zbyt mocno.

**Eesti**

HOIATUS! Ärge pingutage liiga kõvasti.

**Latviešu**

UZMANĪBU! Nepievilkt pārāk cieši.

**Lietuvių**

DĖMESIO! Per stipriai neveržkite.

**Portugues**

ATENÇÃO! Não aperte demasiado.

**Româna**

ATENȚIE! Nu înșuruba prea tare!

**Slovensky**

POZOR! Nedoťahujte príliš na doraz.

**Български**

ВНИМАНИЕ! Не затягайте прекомерно.

**Hrvatski**

OPREZI! Ne zatežite previše.

**Ελληνικά**

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη το σφίγγετε υπερβολικά.

**Українська**

УВАГА! Не затягуйте занадто сильно.

**Srpski**

OPREZI! Ne zateži previše.

**Slovenščina**

POZOR! Ne privij premočno.

**Türkçe**

DİKKAT! Fazla sıkmayınız.

**中文**

注意！请勿锁得太紧。

**繁中**

注意！請勿鎖得太緊。

**한국어**

주의! 너무 세게 조이지 마세요.

**日本語**

注意！締めすぎないでください。

**Bahasa Indonesia**

PERINGATAN! Jangan terlalu kencang.

**Bahasa Malaysia**

AMARAN! Jangan terlebih ketat.

تنبيه! يجب عدم ربطه بإفراط.  
عربي

**ไทย**

ข้อควรระวัง! ไม่ควรขันน็อตแน่นจนเกินไป

12





